

22241 - باقیات الصالحات کیا ہیں

سوال

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں باقیات الصالحات سے کیا مراد ہے ؟
 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا الكهف (46)
 مال والاد تودنيا کی ہی زینت ہے ، اور (ہاں) البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازروئے ثواب اور (آئندہ کی) اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

شیخ شنقیطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

باقیات الصالحات کے بارہ میں علماء کرام کے سب اقوال ایک ہی چیز کی طرف لوٹتے ہیں ، وہ اعمال صالحہ جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے ، چاہے ہم یہ کہیں کہ وہ پانچوں نمازیں ہیں جیسا کہ سلف میں ایک جماعت کا قول ہے ، جن میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سعید بن جبیر اور ابومیسرة ، عمر بن شریحیل رحمہم اللہ شامل ہیں -

یا پھر یہ کہیں کہ وہ سبحان اللہ والحمدلہ ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ، ہے ، یہ جمہور علماء کا قول ہے جس پر احادیث مرفوعہ بھی دلالت کرتی ہیں جو کہ ابوسعید خدری اور ابودرداء اور ابوہریرہ اور نعمان بن بشیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہیں -

مقیدہ - اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے - کا کہنا ہے : اور تحقیق یہ ہے کہ : باقیات الصالحات عام لفظ ہے جو کہ پانچوں نمازوں اور مذکورہ پانچ کلمات اور اس کے علاوہ دوسرے وہ اعمال جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے سب کو شامل ہیں -

اس لیے کہ یہ سب اعمال کرنے والے کے لیے باقی رہیں گے اور دنیا کی زینت کی طرح ختم اور زائل ہونے والے نہیں ، اور اس لیے بھی کہ ان کا وقوع صالح اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوا ہے ۔